

برائے فوری اجراء

## آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ برامپٹن کی سستی رہائشوں کی حکمت عملی بنانے میں ہماری مدد کریں

برامپٹن، آن (15 اکتوبر 2019) – اپنے رہائشیوں کی مختلف رہائشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، سٹی آف برامپٹن سستی رہائشوں کی اپنی پہلی حکمت عملی کی تشکیل کا آغاز کرنے پر فخر محسوس کرتا ہے۔

محفوظ اور مناسب رہائشیں جسمانی، معاشی اور سماجی بہبود کے لیے نہایت اہم ہوتی ہیں مگر، برامپٹن اور گریٹر ٹورانٹو ایریا کے تمام شہروں کے رہائشیوں کے لیے سستی رہائشوں کا حصول اب تک ایک چیلنج بنا ہوا ہے۔

سٹی اپنی کمیونٹی کی قیمتی رائے کو جاننے کے لیے عوامی مشاورت کی چار تقریبات کا انعقاد کر رہا ہے۔ شہریوں کی حوصلہ افزائی کی کی جاتی ہے کہ وہ اس تقریب میں شرکت کریں اور سستی رہائشوں اور اپنی رہائشی ضروریات کے متعلق اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کریں۔

### پبلک اوپن ہاؤس

منگل، 22 اکتوبر، شام 4:30 – 7:30

برامپٹن سٹی ہال، آٹریئم (مین فلور) (Brampton City Hall, Atrium (Main Floor)  
2 ویلنگٹن اسٹریٹ ویسٹ (2 Wellington Street West)

### عوامی ورکشاپ #1

جمعرات، 24 اکتوبر، شام 6 – رات 8

سپرنگ ڈیل لائبریری، ملٹی پریز روم (Springdale Library, Multipurpose Room)  
10705 برامیلا روڈ (10705 Bramalea Road)

### عوامی ورکشاپ #2

منگل، 29 اکتوبر، شام 6 – رات 8

ماؤنٹ پلیزنٹ کمیونٹی سنٹر، پال ہنٹ روم بی (Mount Pleasant Community Centre, Paul Hunt Room B)  
100 کمیوٹر ڈرائیو (100 Commuter Drive)

### عوامی ورکشاپ #3

منگل، 5 نومبر، شام 6 – رات 8

نائٹس برج سینئر سنٹر آڈیٹوریم (Knightsbridge Senior Centre Auditorium)  
1A نائٹس برج روڈ (1A Knightsbridge Road)

### ہاؤسنگ برامپٹن (Housing Brampton) کے بارے میں

چونکہ ریجن آف پبل کرایہ کی سستی یونٹس فراہم کرنے والی ایک مقامی اتھارٹی ہے لیکن زمین کے استعمال کی منصوبہ بندی کرنا سٹی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے تعمیر کی جانے والی سستی برائے کرایہ اور ملکیتی یونٹس کی کی تعداد میں اضافہ کرنا ہاؤسنگ برامپٹن (Housing Brampton) کی توجہ کا مرکز ہو گا۔

سٹی رہائشیوں، رہائش فراہم کنندگان، کمیونٹی کے اسٹیک ہولڈرز اور تمام حکومتی سطحوں کے ساتھ مل کر "برامپٹن میں تیار شدہ" ایک حکمت عملی تشکیل دے گا، جو برامپٹن کے شہریوں کی موجودہ اور مستقبل کی رہائشی ضروریات کو پورا کرے گی۔  
سستی رہائشوں کے بارے میں سٹی کی حکمت عملی کے متعلق مزید جاننے کے لیے [ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں](#)۔

#### اقتباس

"اگلے 25 سال میں ہمارے شہر کی آبادی 50 فیصد تک بڑھنے کی توقع ہے، برامپٹن کو مواقع کا شہر بنانے کو یقینی بنانے کے لیے اپنے رہائشیوں کی خوشحالی میں اضافہ کرنا ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اپنے شہر سے لوگوں کی وابستگی میں اضافہ کرنے، اسے رہنے کے قابل اور کمیونٹی پر مرکوز بنانے کے لیے ہاؤسنگ برامپٹن ایک جرات مندانہ قدم ہے۔ ہمیں برامپٹن کے تمام رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ باہر نکلیں اور اپنی آواز بلند کریں۔"  
- میئر پیٹرک براؤن

30--

کینیڈا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباری اداروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

[Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca) | 905-874-3426